

کیا رین واٹر کو نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے  
میں کہ کیا مجھے قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا؟

سائل: ایک بھائی (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

جی ہاں! قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور عبادت پر بندہ کو ثواب ملتا ہے  
اور عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «النَّظَرُ فِي  
الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ» عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔

(الابانة الكبرى ج 1 ص 343)

اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: أَعْطُوا  
أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ؟، قَالَ: «النَّظَرُ  
فِي الْمُصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ، وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَ عَجَائِبِهِ» اپنی آنکھوں کو عبادت سے  
حصہ دو کہا گیا یا رسول اللہ ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا  
کہ قرآن کو دیکھنا اور اس میں تفکر کرنا اور اس کے عجائب پر غور کرنا۔

(العظمة لابی الشيخ الاصبهانی ج 1 ص 225)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء

قادری

Date:17-05-2019

## Reward for looking at the Qur'ān

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the noble scholars of the mighty Sharī'ah say concerning looking at the Qur'ān, will I get rewarded for that?

Questioner: Brother from UK

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

Yes indeed! Looking at the Qur'ān is ibādah and a person is rewarded for worship. It is also narrated from 'Abd Allāh ibn 'Abbās (May Allah be pleased with him) that he ﷺ said:

“Looking at the Qur'ān is ibādah.”

[al-Ibānah al-Kubrā Jild 1 page 343]

Apart from this it is mentioned in a hadīth that the Prophet ﷺ said:

“Give your eyes their portion of worship.” It was said: “O Messenger of Allāh ﷺ what is their portion of ibādah?” He ﷺ said: “Looking at the Mushaf, contemplating it and considering it's marvels.”

[al-Azhamah li Abi al-Shaykh al-Asbahānī vol 1 page 225]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Translated by Ustādh Ibrār Shafī'